

99499 - لوگوں نے فطرانہ جمع کروایا لیکن فقراء نہ ملنے کی وجہ سے عید کے بعد تقسیم کیا

سوال

ایک شخص اٹلی میں مقیم ہے، اور اپنے علاقے کی مسجد کا متولی اور نگران ہے، مسجد کے کام مثلاً خرچہ وغیرہ اور رمضان میں فطرانہ جمع کرنا تا کہ مستحقین تک پہنچایا جا سکے، لیکن مستحقین کی مکمل شروط والا شخص نہیں ملا جسے وہ فطرانہ وغیرہ دیا جا سکے، اور ابھی تک اس کے پاس ہی جمع ہے، تو کیا مسجد کا نگران اسے مسجد کے خرچہ میں جمع کر لے؟

یہ علم میں رہے کہ مسجد کے اخراجات کافی ہیں، یا کہ وہ اپنے ملک میں شرعی علوم پڑھانے والے مدرسہ کو دے دے، کیونکہ مدرسہ محسنین سے چندہ جمع کر کے چلایا جا رہا ہے، اور آیا کیا ایسے کرنے میں کوئی حرج تو نہیں، کیونکہ اسکا بیٹا اس مدرسہ میں پڑھتا ہے، اور کیا فطرانہ دینے والوں کے اجروثواب میں تو کمی واقع نہیں ہو گی؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

فطرانہ نماز عید سے قبل ادا کرنا واجب ہے؛ کیونکہ ابو داود اور ابن ماجہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ:

"رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے لغو فضول حرکتوں سے پاکی اور مساکین کے لیے بطور کھانا فطرانہ فرض کیا، جس نے نماز سے قبل فطرانہ ادا کیا تو یہ فطرانہ قبول ہوگا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے"

سنن ابو داود حدیث نمبر (1609) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (1827).

علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود میں اسے حسن قرار دیا ہے.

ابو داود کی شرح عون المعبود میں لکھا ہے:

"اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جس نے بھی نماز عید کے بعد فطرانہ ادا کیا تو وہ اسی طرح ہے جس نے فطرانہ ادا ہی نہ کیا ہو، اس وجہ سے کہ اس نے واجب کردہ صدقہ چھوڑا ہے.

اور اکثر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ: نماز عید سے قبل فطرانہ کی ادائیگی صرف مستحب ہے، اور انہوں نے بالجزم یہ کہا ہے کہ عید والے دن کے آخر تک اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، لیکن حدیث ان کا رد کرتی ہے۔

اور رہا یہ کہ فطرانہ کی ادائیگی یوم عید سے بھی مؤخر کرنا ت واس کے متعلق ابن رسلان کہتے ہیں:

یہ بالاتفاق یہ حرام ہے، کیونکہ یہ زکاة ہے، تو اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ کو موجب ہوگا، جس طرح کہ نماز کو وقت نکلنے کے بعد ادا کرنا گناہ ہے " انتہی۔

اس بنا پر اس امام نے جمع کردہ فطرانہ کی ادائیگی میں تاخیر کر کے غلطی کی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مساکین اور مستحقین کو تلاش کرتا، یا پھر کسی اور ملک اور علاقہ جہاں محتاجین تھے وہاں بھیج دیتا۔

دوم:

جس نے بھی بغیر کسی عذر کے یوم عید کے بعد فطرانہ ادا کیا تو وہ گنہگار ہوگا، اس پر فطرانہ کی قضاء لازم ہے، اور مسجد کے نمازیوں کو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اسے اپنی جانب سے فطرانہ ادا کرنے کا وکیل بنایا تھا، اور اب امام کو چاہیے کہ وہ مستحقین تک فطرانہ پہنچائے، اور فطرانہ مسجد کے اخراجات میں شامل کرنا جائز نہیں۔

رہا شرعی علوم کی تعلیم دینے والا مدرسہ اگر تو مدرسہ میں زیر تعلیم طلباء فقراء ہیں اور زکاة کے مستحق ہوں تو فطرانہ انہیں دینا جائز ہے، وگرنہ نہیں۔

ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" اور اگر وہ اس (یعنی فطرانہ کی ادائیگی) میں یوم عید کے بعد تک تاخیر کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اور اس پر قضاء لازم ہے " انتہی۔

دیکھیں: المغنی ابن قدامہ (2 / 458)۔

اور الموسوعة الفقهية میں درج ہے:

" مالکیہ اور شافعیہ اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ جس نے بھی ادائیگی کی استطاعت کے باوجود فطرانہ یوم عید کے بعد تک مؤخر کیا تو وہ گنہگار ہوگا، اور اس پر قضاء لازم ہے " انتہی۔

دیکھیں: الموسوعة الفقهية (43 / 41)۔

اور مستقل فتویٰ کمیٹی سے درج ذیل سوال دریافت کیا گیا:

کیا فطرانہ کی ادائیگی کا وقت نماز عید سے لیکر دن کے آخر تک ہے ؟

کمٹی کا جواب تھا:

" فطرانہ کی ادائیگی کا وقت نماز عید کے بعد شروع نہیں ہوتا، بلکہ رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے جو کہ شوال کی پہلی رات (جسے عرف عام میں چاند رات کہا جاتا ہے) ہے، اور نماز عید کے وقت پر ختم ہو جاتا ہے؛ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی ادائیگی سے قبل فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جس نے نماز عید سے قبل ادا کر دیا تو یہ فطرانہ مقبول ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے "

اور عید سے ایک یا دو یوم قبل فطرانہ کی ادائیگی جائز ہے، اس کی دلیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث ہے:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں فطرانہ فرض کیا.....

اور اس حدیث کے آخر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں:

" اور یہ فطرانہ عید سے ایک یا دو یوم قبل دیا کرتے تھے "

چنانچہ جس شخص نے بھی اس کی ادائیگی وقت میں نہ کی تو وہ گنہگار ہوگا، اور اسے اس میں تاخیر سے توبہ و استغفار کرنا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ فطرانہ بھی فقراء کو ادا کرنا ہوگا " انتہی۔

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (9 / 373)۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے درج ذیل سوال دریافت کیا گیا:

میں نے فطرانہ ادا نہیں کیونکہ عید کا اعلان اچانک ہوا تھا، اور عید الفطر کے بعد مجھے یہ دریافت کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی کہ اب اس سلسلہ میں مجھے کیا کرنا چاہیے، تو کیا فطرانہ مجھ سے ساقط ہو گیا ہے یا کہ ادائیگی ضروری ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے ؟

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا:

فطرانہ کی ادائیگی فرض ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

"رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا"

تو یہ ہر مسلمان مرد و عورت بچے اور بوڑھے، آزاد و غلام پر فرض ہے، اگر فرض کیا جائے کہ عید اچانک ہوئی ہو اور آپ اسے پہلے نہیں ادا کر سکے، تو آپ اسے عید کے دن ادا کر دیں، چاہے نماز کے بعد ہی ادا کرتے، کیونکہ فرضی عبادت کا وقت جب کسی عذر کی بنا پر ختم ہو جائے تو وہ عذر زائل ہوتے ہی اس کی ادائیگی کی جائیگی۔

کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے بارہ میں فرمان ہے:

"جو شخص نماز بھول جائے، یا سویا رہے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت اس کی ادائیگی کر لے، اس کا کفارہ یہی ہے"

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی:

اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر . طہ

اس بنا پر میرے سائل بھائی آپ کو فطرانہ کی ادائیگی اب کر دینی چاہیے " انتہی۔

ماخوذ از: فتاویٰ الشیخ ابن عثیمین (18 / 271)۔

اور شیخ رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے:

"اور اگر کسی عذر مثلاً بھولنے، یا پھر چاند رات کو فقراء نہ ملنے کی بنا پر فطرانہ کی ادائیگی میں تاخیر کی تو فطرانہ قبول ہوگا، چاہے اس نے اسے اپنے مال کے ساتھ واپس کر دیا، یا اسے فقیر اور محتاج کے آنے تک باقی رکھا"

اس امام مسجد کو چاہیے کہ وہ جمع کردہ فطرانہ فقراء و محتاجین کو ادا کر دے، اگر اس کے علاقے میں فقراء و محتاجین نہیں ملتے تو پھر کسی اور ملک اور علاقے بھیج دے۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے فطرانہ کسی اور ملک اور علاقے میں بھیجنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا:

"اگر تو کسی ضرورت مثلاً محتاج اور فقراء نہ ملنے کی صورت میں فطرانہ کسی اور علاقے میں بھیجا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر بغیر کسی ضرورت کے ہو کسی اور علاقہ میں فطرانہ بھیجا جائے مثلاً اس علاقے میں فقراء و محتاجین ہوں تو پھر اہل علم کے قول کے مطابق کسی اور علاقے میں فطرانہ بھیجنا جائز نہیں" انتہی۔



ماخوذ از: فتاویٰ ابن عثیمین (18 / 318).

والله اعلم .